

Attempt questions

¹ In isolated system the momentum after collision of two bodies:

- a. Increase b. Constant
- c. Decreases d. Zero

² The formula of torque is:

- a. $L = F \times E$
- b. $E = F \times \tau$
- c. $\tau = F \times L$
- d. $E = F \times L$

³ A point where an applied force causes the system to move without rotation is called:

- a. Center of gravity
- b. Center of mass
- c. Center of body
- d. Center of axis

⁴ Number of factors on which Torque depends:

- | | | | |
|------|------|------|------|
| a. 2 | b. 3 | a. 2 | b. 3 |
| c. 4 | d. 5 | c. 4 | d. 5 |

⁵ The center of gravity of irregular shape body can be found with the help of

- a. Gravity
- b. Meter rod
- c. Plumb line
- d. Screw gauage

⁶ The types of equilibrium are:

- | | | | |
|------|------|------|------|
| a. 3 | b. 2 | a. 3 | b. 2 |
| c. 1 | d. 4 | c. 1 | d. 4 |

⁷ The center of gravity of a uniform solid cylinder is at:

- a. Middle point on its axis.
- b. Center of the cylinder
- c. The point of intersection of diagonals.
- d. Centre of mass.

⁸ The net torque acting on a rotating body with uniform speed is:

- | | | | |
|------|------|-----|-----|
| a. 1 | b. 2 | 2-b | 1-a |
| c. 5 | d. 0 | 0-d | 3-c |

آئسو لیڈ سسٹم میں دو ٹکرائے والے اجسام کا مو مینٹم رہتا ہے۔
-بڑھ جاتا ہے۔-a

-کم ہو جاتا ہے۔-c

ٹارک کافار مولا ہے۔
2

$$E = F \times \tau \quad b. \quad L = F \times E - a$$

$$E = F \times L - d \quad \tau = F \times L - c$$

ایسا پواٹ جہاں پر گالی جانے والی ریڑٹنٹ فورس جسم کی روٹیشن کے بغیر حرکت کرنے کا باعث بنتی ہو کھلاتی ہے۔

-سینٹر آف گریویٹی -b
-سینٹر آف ماس -d
-سینٹر آف بادی -c

ٹارک پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی تعداد ہوتی ہے۔
4

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

ایک بے قاعدہ شکل کے جسم کا سینٹر آف گریویٹی کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

-فانہ -a
-میٹر راڈ -b
-سکریو گچ -c
-پلب لائن -d

ایکوی لبریم کی حالتیں ہوتی ہیں
6

a. 2

b. 4

ایک یونیفارم ٹھوس سلنڈر کا سینٹر آف گریویٹی ہوتا ہے:

-ایکسز کے درمیانی پواٹ پر -a

-سلنڈر کے مرکز پر -b

-وتروں کے کاٹنے والے پواٹ پر -c

-سینٹر آف ماس -d

ہے:

1-a

3-c